

برائے فوری اجراء

## سٹی کی توسیع شدہ بندشوں اور منسوخوں کی وجہ سے غیر ضروری سروسز کے شعبوں میں ملازمتوں کو عارضی طور پر معطل کیا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (17 اپریل 2020) – کورونا وائرس (کووڈ-19) کے ردعمل میں سہولت گاہوں کی توسیع شدہ بندشوں اور پروگراموں کی منسوخ کی وجہ سے، سٹی آف برامپٹن نے 18 اپریل 2020 سے شروع کرتے ہوئے غیر ضروری اور غیر بنیادی خدمات میں عملے کے تقریباً 2,000 جزو وقتی، عارضی/بے ضابطہ اور موسمیاتی اراکین کی ملازمت کو عارضی طور پر معطل کرنے کا مشکل فیصلہ کیا ہے۔

یہ ایک عارضی قدم ہے اور سٹی امید کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم کئی پروگرام اور خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کے قابل ہوں گے، تو ان ملازمین کو سٹی کی خدمات میں واپس بلا لیا جائے گا۔

اس عبوری وقت میں، سٹی متاثر ہونے والے ملازمین کو معاونتی خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور توقع کرتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر حکومت کینیڈا کے بینفٹس پروگرام کی جانب سے معاشی معاونت کے لیے اہل ہوں گے۔

اس ہفتے کی ابتداء میں، برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس اور پبل پبلک ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ، سٹی نے اعلان کیا ہے کہ سٹی کے تمام میلے، تقریبات، مظاہرے اور سٹی کی سہولت گاہوں اور فنون کے مظاہروں کے مراکز میں تقریبات کے انعقاد کے لیے کمیونٹی کے پرمٹ 1 جولائی 2020 تک منسوخ رہیں گے۔ یہ اعلان 27 مارچ 2020 کو ہونے والے اعلان کے بعد ہو رہا ہے، کہ سٹی ہال اور سٹی آف برامپٹن کی دیگر تمام سہولت گاہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دینے کے لیے تاحکم ثانی بند رہیں گی۔

سٹی ضروری اور بنیادی خدمات فراہم کرنا جاری رکھے گا، بشمول: فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز، ٹرانزٹ، ہائی لاء انفورسمنٹ، اینیمل سروسز، ورکس آپریشن اور دیکھ بھال، پارک اینڈ فورسٹری کا کام، سیکورٹی سروسز، سائٹ پلان کی درخواستیں، عمارتوں کے پرمٹ/معائنے، آفیشل پلان امینڈمنٹس (OPAs) اور ریزوننگ پلاننگ کی درخواستیں، 311 اور انتظامی/تکنیکی عمل درآمد۔

حالیہ ترین اپ ڈیٹس اور کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات (FAQs) کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں:

[www.brampton.ca/COVID19](http://www.brampton.ca/COVID19)

### اقتباسات

"یہ بلاشبہ سٹی کو پیش آنے والا مشکل ترین وقت ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں مشکل، مگر ضروری، فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ سٹی کی سہولت گاہوں کی اضافی بندش کا مطلب ہے کہ ہماری جانب سے پروگراموں اور خدمات کی فراہمی کے طریقے میں تبدیلی آگئی ہے۔ ہماری توجہ ایک قابل استحکام ردعمل پر برقرار ہے، جو اس عالمی وباء کے طویل مدتی منفی اثرات کو کم کرتے ہوئے ہمیں اپنی کمیونٹی کی سلامتی کو محفوظ رکھنے اور شہریوں کو ضروری اور بنیادی خدمات فراہم کرنے کے قابل بناتا ہو۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ملک کی زیادہ تر تنظیموں کی طرح، ہم فعال طور پر اس بحران کے کئی اثرات کا ردعمل دے رہے ہیں اور انہیں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ عملے کے پاس اس وقت کے دوران اپنے لیے ضروری معاونتی خدمات تک رسائی موجود ہو۔ میں تمام لوگوں کو اس بات کی بھی یقین دہانی کروانا چاہوں گا کہ یہ مشکل فیصلہ کووڈ-19 کے ردعمل میں بندشوں اور منسوخوں کا براہ راست نتیجہ ہے اور یہ متاثرہ ملازمین کی کارکردگی کی عکاسی نہیں کرتا، جو ہماری ٹیم کا ایک قابل قدر حصہ ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)